



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

### **PRESS RELEASE**

For immediate release

December 14, 2022

#### **Newly appointed Commissioners assume charges at SECP**

ISLAMABAD, December 14: The three new Commissioners, appointed by the federal government have assumed charges of their responsibilities at the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

The federal government on December 13 has appointed Mr Akif Saeed, Mr Abdul Rehman Warraich and Mr Mujtaba Ahmad Lodhi as commissioners in SECP for a period of three years. Following the new appointments, the number of commissioners now stands at five, completing the commission.

Akif Saeed has earlier served in the SECP as head of various divisions and later he was appointed as Commissioner from December 2014 to December 2017. During his tenure at SECP, he has contributed significantly towards instituting various legal and regulatory reforms. He was instrumental in introducing legal framework for REITS and private equity and private pension funds. Akif played a significant role in merger of three exchanges and divestment of PSX strategic shareholding to consortium led by three Chinese exchanges. He also played a vital role in achieving compliance with the IOSCO benchmarks principles of the securities market. He led the team that drafted the new Securities Act 2015 and Futures Act 2016.

Mr. Abdul Rehman Warraich is a financial services professional with more than 27 years of experience. He has worked in both public and private sectors. His career includes civil services, asset management, risk management, public debt management and financial consulting. He has served in the Federal Board of Revenue as Deputy Commissioner Income Tax. He has also served in NBP Fund Management Limited, Punjab Pension Fund and UBL Fund Managers Limited in various roles including Fund Manager, Head of Research, Head of Investment and Chief Investment Officer. He has served as Debt Management Specialist for Government of the Punjab, and Director General Debt for Government of Pakistan. He is a CFA Charter holder, certified FRM and holds a bachelor's degree in law.

Mujtaba Lodhi has extensive experience in Global Financial Capital Markets, Risk Management, Regulatory Frameworks, Competition Law, Enforcement and

Compliance and Organizational Digital Transformation. Before his appointment as Commissioner in SECP, he was serving as a Member of Competition Commission of Pakistan (CCP), where he supervised several core departments, including Mergers and Acquisitions, Exemptions, Office of International Affairs, Information System and Technology and Office of Fair Trade. Mr. Lodhi developed extensive professional association with the financial services & corporate industry in the United Kingdom, while working with top global banks, including Barclays, HSBC, Citigroup and JP Morgan. He holds a Master of Science degree in Investment and Finance from Queen Mary University of London, and a Bachelor of Science (Honours) degree in Software Engineering from University of East London, UK.

### ایس ای سی پی کے نئے کمشنرز نے عہدوں کا چارج سنبھال لیا

اسلام آباد (دسمبر 14) وفاقی حکومت کی جانب سے تعینات کئے گئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کمشنروں نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عاکف سعید، عبدالرحمان ورائج اور مجتبیٰ احمد لودھی کو تین سال کی مدت کے لئے کمشنر ایس ای سی پی تعینات کیا گیا ہے۔ نئی تعیناتیوں کے لئے ایس ای سی پی میں کمشنروں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے۔

عاکف سعید اس سے پہلے دسمبر 2014 سے دسمبر 2017 تک ایس ای سی پی کمشنر کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ بطور کمشنر تقرری سے قبل ایس ای سی پی کے مختلف محکموں کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے انٹیل اسٹیٹ انوسٹمنٹ ٹرسٹ، پرائیویٹ ایکویٹی اور پرائیویٹ پنشن فنڈز کے ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ عاکف سعید نے پاکستان کی تین اسٹاک ایکس چینجوں کے انضمام اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ سکیورٹیز مارکیٹ کے بین الاقوامی معیارات کو متعارف کروانے میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا۔ عاکف سعید نے سکیورٹیز ایکٹ 2015 اور فیوچرز ایکٹ 2016 کا مسودہ تیار کرنے والی ٹیم کی بھی سربراہی کی۔

عبدالرحمن ورائج چارٹرڈ فنانشل انالسٹ اور فنانشل رسک مینیجر ہیں نجی اور سرکاری شعبوں کی مالیاتی خدمات کا 25 سال سے زائد تجربہ رکھتے ہیں۔ ایس ای سی پی میں بطور کمشنر تعینات ہونے سے پہلے، وہ سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کے صدر اور ایڈووکیسی کو چیئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ 2019 سے 2021 تک حکومت پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کو ٹیکسیشن، ایسٹ منجمنٹ، رسک منجمنٹ، ڈیٹ منجمنٹ اور پرائیویٹ فنڈ منجمنٹ کے شعبوں میں مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے حکومت پنجاب میں ڈیٹ منجمنٹ اسپیشلسٹ اور یو کے ایڈ، فارن، کامن ویلتھ اینڈ ڈویلپمنٹ آفس یو کے، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کے کنسلٹنٹ کے طور پر بھی خدمات انجام دیں ہیں۔

مجتبیٰ لودھی کو عالمی مالیاتی کیپٹل مارکیٹس، رسک مینجمنٹ، ریگولیٹری فریم ورکس، مسابقتی قانون، نفاذ اور تعمیل اور تنظیمی ڈیجیٹل تبدیلی کا وسیع تجربہ ہے۔ ایس ای سی پی میں بطور کمشنر تقرری سے پہلے، وہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، جہاں انہوں نے کئی محکموں کی نگرانی کی، جن میں مرجرز اینڈ ایکویزیشنز، ایگزیکٹو کمپنیز، دفتر برائے بین الاقوامی امور، انفارمیشن سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی اور آفس آف فیئر ٹریڈ شامل ہیں۔ مجتبیٰ لودھی نے برطانیہ میں بارکلیز، ایچ ایس بی سی، سٹی گروپ اور جے پی مورگن سمیت سرفہرست عالمی بینکوں کے ساتھ کام کیا اور فنانسشل خدمات اور کارپوریٹ انڈسٹری کے ساتھ وسیع پیشہ ورانہ تعلقات استوار کیے۔ انہوں نے لندن کی کونین میری یونیورسٹی سے انوسٹمنٹ اینڈ فنانس میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے، اور یونیورسٹی آف ایسٹ لندن، برطانیہ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پیچلر آف سائنس (آنرز) کی ڈگری حاصل کی ہے۔